

## 12451- عورتوں کی امام کہاں کھڑی ہوگی، اور گھر میں عورت کی نماز کی افضلیت

### سوال

باوجود اس کے کہ گھر میں عورت کی نماز افضل ہے اگر وہ بھی گھر یا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرے تو کیا اسے بھی مرد کی طرح وہی اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور کیا اگر وہ گھر میں انفرادی نماز ادا کرتی ہے تو ستائیس درجہ ثواب حاصل ہوگا؟  
نماز میں عورت باقی عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے اس کی کیا دلیل ہے، اس طرح کہ وہ اسی صفت میں کھڑی ہوگی نہ کہ مردوں کی طرح صفت کے آگے؟

### پسندیدہ جواب

یہ سوال دو شقوں پر مشتمل ہے :

پہلی شق :

گھر میں عورت کی نماز کی افضلیت :

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"سنت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، چاہے کوئی بھی جگہ ہو مکہ یا کوئی اور علاقہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

"اللہ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں نماز ادا کرنے سے مت روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں"

آپ نے یہ فرمان مدینہ میں جاری کیا تھا، حالانکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا بہت زیادہ افضل ہے، اور اس لیے بھی کہ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ پردے کا باعث اور فتنہ و فساد سے دور ہے، وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے"

دیکھیں : الفتاویٰ الجامعة للمرأة المسلمة (207/1).

اور مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ سوال نمبر (3457) کے جواب کا مطالعہ کریں.

نماز باجماعت میں اجر و ثواب کی زیادتی مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا :

"مجھے علم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز ادا کرنا پسند کرتی ہو.... اور تیری تیرے گھر میں نماز ادا کرنا تیرا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے...."

مسند احمد مسند باقی الانصار حدیث نمبر (25842) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر (337) میں اسے حسن قرار دیا ہے.

دوسری شق :

اگر عورت امامت کروائے تو وہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی اس کی دلیل :

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اسی طرح عورتوں کی امامت کروانے والی کے لیے ہر حالت میں عورتوں کے درمیان کھڑا ہونا مسنون ہے، کیونکہ وہ سب کی سب پردہ ہیں۔

دیکھیں : المغنی (347/1)۔

اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"سنت یہ ہے کہ عورت کی امام کروانے والی ان کے وسط اور درمیان میں کھڑی ہوگی، اس کی دلیل عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کروائی اور وہ ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں"

دیکھیں : المجموع شرح المصذب (192/4)۔

اور "اگر عورتیں نماز باجماعت ادا کریں تو ان کی امام عورت ان کے وسط میں کھڑی ہوگی، کیونکہ اس میں زیادہ ستر اور پردہ ہے، اور پھر عورت سے تو بقدر استطاعت پردہ اور ستر مطلوب ہے، اور یہ معلوم ہے کہ عورت کا عورتوں کے درمیان کھڑا ہونا ان کے سامنے کھڑا ہونے سے زیادہ پردہ اور ستر ہے اس کی دلیل عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے :

"وہ دونوں جب امامت کروائیں تو ان کی صف میں کھڑی ہوتیں"

یہ صحابیہ کا فعل ہے، جب اس کی مخالفت میں کوئی نص نہیں تو صحیح یہی ہے کہ یہ حجب ہے، اور عورت ایک عورت کے ساتھ ہو تو وہ ایک مرد کے ساتھ کھڑا ہونے کی طرح ہی عورت کے پہلو میں کھڑی ہوگی"

دیکھیں : الشرح الممتع لابن عثیمین (387/4)۔

واللہ اعلم۔